

# اسلام میں میرا پہلا دن

ان تین اصولوں کی مبسوط شرح جن کا جاننا  
ایک نئے مسلمان کے لیے ضروری ہے



# اسلام میں میرا پہلا دن

ان تین اصولوں کی مبسوط شرح جن کا جاننا  
ایک نئے مسلمان کے لیے ضروری ہے



مركز اصول  
OsoulCenter  
www.osoulcenter.com

ح) جمعیة الدعوة والإرشاد وتوعية الجالیات بالربوة ، ۱۴۴۵ هـ

أصول ، مركز

یومی الأول فی الإسلام: شرح مبسط للأصول الثلاثة التي يجب علی المسلم  
الجديد معرفتها باللغة الأردیة. / مركز أصول - ط ۱..- الرياض ، ۱۴۴۵ هـ

۴۸ ص : ۱۴.۸ X ۲۱ سم

رقم الإيداع: ۱۴۴۵/۲۰۵۹۱

ردمك: ۳-۲۱-۸۴۳۸-۶۰۳-۹۷۸



- اس نسخے کو مرکز نے تیار اور ڈیزائن کیا ہے۔
- مرکز اس نسخے کے طبع و نشر کی اجازت دیتا ہے، بشرطیکہ کہ ماخذ کی جانب اشارہ کر دیا جائے اور نص میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔
- طبع کرنے کی صورت میں مرکز کے متعین کردہ اعلیٰ طباعتی معیاروں کی پابندی لازمی ہوگی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





۱۳



پہلا سوال  
تمہارا رب کون ہے

۲۱



دوسرا اصول  
تمہارا دین کیا ہے

۳۷



تیسرا اصول  
تمہارا نبی کون ہے



# تعمیر کعبه



# اسلام

## ہی دین برحق ہے

دین اسلام ہی وہ دین برحق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے پسند فرمایا یہی وہ دین ہے جس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: «بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے» [آل عمران: ۱۹] بڑی شان والے اور برتر اللہ کا فرمان ہے: «جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا»۔ [آل عمران: ۸۵]

جو شخص دین اسلام کو گلے لگاتا اور اسے مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ نور اور ہدایت کے راستے پر چل پڑتا ہے جو کہ اس اللہ تک پہنچانے والا سیدھا اور بالکل واضح راستہ ہے جس نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور وجود بخشا۔

دین اسلام کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں اچھی حالت میں اطمینان اور سعادت کے ساتھ رہے اسی طرح موت کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی سعادت و کامرانی سے بہرہ ور ہو یاس طور کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے اور وہ جنت کی دائمی نعمت سے لطف اندوز ہو۔

ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ دین حق کی تلاش کرے جو کہ اسلام ہے اس سے واقفیت حاصل کرے اس پر ایمان لاتے ہوئے اسے گلے لگائے اور اس کی تعلیمات اور احکام کی پاسداری کرے تاکہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے دامن مراد کو بھر سکے۔

# اسلام

## میں انسان کیسے داخل ہوتا ہے؟

انسان جب یہ کلمہ (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله) (میں) گو اہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں) صدق دل سے 'یقین کے ساتھ اور اس کے معنی و مفہوم کو جانتے ہوئے' کہتا ہے 'تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے' چنانچہ جو شخص اس کلمہ کے معنی و مفہوم کو جانتے ہوئے 'صدقت و راستی اور یقین کے ساتھ اور اس کے معنی و مفہوم کو تسلیم کرتے ہوئے' اسے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے 'تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے' پھر اس کے لیے یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی دیگر تعلیمات کو سیکھے اور اپنی استطاعت کے مطابق ان پر عمل کرے 'اس کے علم میں جس قدر اضافہ ہوگا اسی قدر اس کا ایمان بھی بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے اجر و ثواب میں اضافہ بھی ہوگا۔



شہادتین:

(میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں) کا معنی و مفہوم:

آپ ایمان و یقین اور صداقت و راستی کے ساتھ یہ کلمہ: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله) (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں) پڑھتے ہی اسلام میں داخل ہو گئے، تو کیا آپ اس کلمہ کے حقیقی معنی سے واقف ہیں؟

■ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا معنی ہے: یہ عقیدہ رکھنا اور اقرار کرنا کہ ایک معبود کے سوا کوئی ایسا معبود نہیں جو تمام تر عبادت و اطاعت کا مستحق ہو، اور وہ ہے اللہ پاک و برتر کی ذات، جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مدبر و کارساز بھی۔

■ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا معنی ہے: یہ عقیدہ رکھنا اور اقرار کرنا کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں جن کو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی اس کے تقاضے پر عمل کرنا، یا اس طور کہ آپ نے جو حکم دیا اس کی تعمیل کی جائے اور آپ نے جس چیز سے منع کیا اس سے باز رہا جائے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کی جائے۔



اسلام آپ کو مبارک ہو:

میرے عزیز بھائی! اسلام میں آپ کا پہلا دن مطلق طور پر آپ کی زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا: «اسلام اپنے ماقبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے» (مسلم)، یعنی: اسلام سے قبل آپ سے جو کفر، برائیاں، گناہ اور معاصی سرزد ہوئے، ان سب کو اسلام مٹا دیتا ہے، آپ مغفرت الہی کی بشارت قبول کریں، آج آپ گناہوں سے پاک و صاف ہو رہے ہیں اور آپ کی زندگی کا ایک سفید صفحہ کھل رہا ہے، تاکہ آپ اسی طرح پاک و صاف ہو جائیں جس طرح آپ کی ماں نے آپ کو جنا تھا، پھر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں جو خیر و بھلائی سے معمور ہو، اور نور و سعادت اور فرحت و مسرت کی راہ پر چل پڑیں۔

نعمت اسلام کی خوشی:

وہ عظیم فرحت و مسرت جو اسلام میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے محسوس کی، اسے پوری زندگی اپنے اندر لازماً باقی رکھیں، کیوں کہ ہدایت کی نعمت عظیم ترین نعمتوں اور ان بیش بہا احسانات میں سے ہے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، یہ نعمت ہوا، پانی، کھانے اور پینے سے بڑی نعمت ہے، یہ مال و منصب اور جاہ و حشمت سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ وہ مطلقاً سب سے بڑی نعمت ہے، تو بھلا ہم کیوں کر اس سے خوش نہ ہوں؟! اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: «آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہئے، وہ اس سے بدرجہا بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں»۔ [نونس: ۵۹]۔ آپ اپنے اوپر اللہ کے اس فضل کو ضرور محسوس کریں کہ اس نے لاکھوں انسانوں میں سے آپ کو منتخب کیا کہ آپ اسلام میں داخل ہوں، فرمان باری تعالیٰ ہے: «جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے» (الانعام: ۱۲۵)، یہ ایسی عظیم اور بیش بہا نعمت ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ شکر کی ضرورت ہے، اس لیے آپ پر لازم ہے کہ

کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کا شکر بجلائیں، اور اس کی تعریف و توصیف بیان کریں کہ اس نے آپ کو صحیح دین کی رہنمائی فرمائی۔

چند بنیادی تعلیمات جنہیں جاننا ضروری ہے:

اگر آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ امور کا جاننا اور سیکھنا آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے، ان میں سے ان تین اہم سوالوں کا جواب بھی ہے جن کے بارے میں ہر انسان سے موت کے بعد سوال کیا جاتا ہے، اور ان سوالوں کا جواب ہی یہ طے کرتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جنت یا جہنم، یہ تین سوالات حسب ذیل ہیں:

تمہارا رب  
کون ہے؟

تمہارا دین  
کیا ہے؟

تمہارا نبی  
کون ہے؟







پہلا سوال

تمہارا رب کون ہے

میرا رب اللہ ہے۔

مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے جس نے اس کائنات کو اور اس میں موجود تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور انسان کی تخلیق بھی اسی نے کی ہے۔

اگر ہم اس عظیم کائنات، اس کی بڑی بڑی کہکشاؤں اور اس میں موجود کروڑوں سیاروں اور ستاروں پر غور و فکر کریں، اگر ہم اس روئے زمین میں غور و فکر کریں جس پر ہم زندگی گزارتے ہیں اور اس میں موجود وادیوں، پہاڑوں، خشکی، سمندروں اور نہروں پر غور کریں، سمندروں کی تہوں میں، ریگستانوں اور جنگلوں میں موجود کائنات کے عجائب پر غور کریں تو ہمارا غور و فکر ایک ایسے نتیجہ پر ہمیں پہنچائے گا جس سے کوئی راہ فرار نہیں، وہ یہ کہ ایک ایسے عظیم خالق کا وجود ناگزیر ہے جو خوب جاننے والا، بے پناہ قدرت والا اور بیش بہا حکمت والا ہے، جس نے اس کائنات کو وجود بخشا اور بغیر کسی سابقہ نمونہ کے اسے پیدا کیا، کسی ایسے معبود کے وجود کے بغیر ان تمام مخلوقات کا وجود میں آنا ممکن نہیں جس نے انہیں وجود بخشا، ان کے نظام کو منظم کیا، اور اسی مہارت سے انہیں بنایا کہ عقلیں حیران رہ جائیں، بڑی شان والے اور برتر اللہ نے ہر مخلوق کے لیے اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: «کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں»۔ [الطور: ۳۵]۔ چنانچہ نہ اس کائنات نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے اور نہ ہی وہ کسی خالق کے بغیر از خود وجود میں آئی ہے، کیوں کہ عقل والوں کے نزدیک یہ ناممکن ہے!

اللہ ہی تمام تر عبادتوں کا تن تنہا مستحق ہے:

یہ رب ہی وہ معبود ہے جو تمام تر عبادتوں کا تن تنہا مستحق ہے، کیوں کہ اس کائنات کے تمام امور کی تخلیق اور تدبیر کرنے والا اور اس کی ہر مخلوق کو رزق بہم پہنچانے والا بھی وہی ہے، اسی نے تمام لوگوں کو پیدا کیا اور اس زمین پر انہیں وجود بخشا اور انہیں زندگی گزارنے کے وسائل مہیا کیے، فرمان باری تعالیٰ ہے: «یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب! اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے»۔ [الأنعام: ۱۰۲]۔

بنابریں ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: «اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے»۔ [البقرۃ: ۲۱]، نیز اللہ سبحانہ کا فرمان ہے: «اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ»۔ [سورۃ النساء: ۳۶]۔



## انبیائے کرام کا توحید باری تعالیٰ کی دعوت دینا:

توحید کا معاملہ مکمل واضح ہے اس کے باوجود اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی زمین پر بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہمارے درمیان رسولوں کو مبعوث فرمایا ان پر کتابیں نازل کیں جن کے ذریعہ رسولوں نے ہمیں اللہ سے متعارف کرایا اور ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: «ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سننے والا اور ڈر سننے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سننے والا نہ گزرا ہو»۔ (فاطر: ۲۴)۔

بابا آدم علیہ السلام تمام انبیائے کرام جن میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء بھی شامل ہیں جن کی آخری کڑی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سب کے سب ایک عظیم اصول پر متفق تھے وہ عظیم اصول ہے: لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، اس کو ایک جاننے اور تمام تر عبادتوں کو صرف اس کے لیے انجام دینے اور اس کے علاوہ تمام تر معبودوں سے دامن کش رہنے کی دعوت دینا خواہ وہ انسان کی شکل میں ہوں یا پتھر، درخت، ستاروں اور سیاروں وغیرہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: «ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو»۔ [سورۃ النحل: ۳۶]، نیز اللہ جل و علا کا فرمان ہے: «اور ہم نے آپ سے پہلے ایسا کوئی رسول نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس میری ہی عبادت کیا کرو»۔ [سورۃ الانبیاء: ۲۵]۔



## اللہ کے بعض اسماء و صفات

اللہ تعالیٰ کے بہت سے خوبصورت نام اور بلند و بالا صفات ہیں، جب ہم ان سے واقف ہوتے ہیں تو پاک و برتر رب کے تئیں ہماری معرفت بڑھ جاتی ہے، ہمارے اندر اللہ کی محبت، خشیت اور اس کے فضل و کرم کی امید بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: «وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں»۔ [طہ: ۸]۔

اللہ کے ایسے اسمائے گرامی جو اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں ان کی تعداد بہت ہے، ان اسماء میں سے چند یہ ہیں:

■ الرحمن اور الرحیم (بہت رحمت والا اور نہایت مہربان): اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: «تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے» [البقرہ: ۱۶۳]، اللہ تعالیٰ کشادہ اور عظیم رحمت والا ہے، جس کی رحمت ہر ایک چیز کو محیط اور تمام مخلوقات کو شامل ہے، دنیا میں اس کی رحمت ہر مخلوق کو حاصل ہے، جیسے جانور اور تمام انسان خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، فرمان باری تعالیٰ ہے: «اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے»۔ [سورۃ الأعراف: ۱۵۶]، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو رزق بہیم پہنچاتا ہے، انہیں صحت و تندرستی، اشیائے خورد و نوش اور اولاد وغیرہ سے نوازتا ہے، لیکن آخرت میں اس کی رحمت صرف اس کے مومن بندوں کو حاصل ہوگی، جو اس کے انبیاء و رسل کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے ایسی کامل رحمت ہے جو انہیں ابدی سعادت تک پہنچائے گی۔

■ الخالق (پیدا کرنے والا): اللہ فرماتا ہے: «اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے»۔  
 [سورہ الزمر: ۶۲]، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان  
 کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ذرہ سے لیکر کہکشاں تک اور جو مخلوق اس سے  
 بھی بڑی ہے، سب اسی کی تخلیق کردہ ہیں، اس کی تخلیق حکمت، قدرت  
 اور احسان پر مبنی ہے، اس لیے اللہ کی تخلیق میں آپ کو کوئی نقص اور کمی  
 و کجی نظر نہیں آئے گی۔

■ الغفور (خوب معاف کرنے والا): وہی ہے جو سچے دل سے توبہ کرنے والے  
 کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ اس نے (ماضی میں) جو اعمال  
 بھی کیے ہوں، بلکہ بسا اوقات اپنے فضل و کرم کی بنا پر بہت سی مخلوقات کو  
 معاف فرما دیتا ہے، -سوائے اللہ کی عبادت میں شرک کے، اس گناہ کو بغیر  
 توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنی مغفرت سے سرفراز ہونے کے لیے  
 بندوں کے سامنے بہت سے اسباب و وسائل کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں،  
 جیسے توبہ و استغفار، ایمان، عمل صالح اور مخلوق الہی کے ساتھ حسن سلوک، اللہ  
 تعالیٰ فرماتا ہے: «ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں،  
 ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں»۔ [آیہ: ۸۲]۔



■ الرزاق (رزق رساں): اللہ پاک و برتر ہی وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کی بادشاہت و ملکیت ہے وہ غنی و بے نیاز ہے اس کا فضل و احسان ہے کہ وہ خوب نوازنے والا ہے ہر مخلوق کی روزیاں اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے: «میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے»۔ [سورہ الذاریات: ۵۶ - ۵۸]۔

■ السلام: وہ ذات جو عظیم و برتر ہے اور ہر قسم کے عیوب اور تمام تر صفات نقص سے پاک و صاف ہے جس کی تمام تر صفات عظمت و کمال اور حسن و جمال پر مبنی ہیں جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اپنے قول و عمل کے ذریعہ سلام (امن و آشتی) کو عام کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: «وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف ہے»۔ [الحشر: ۲۳]۔



■ العلمیم (ہر چیز کو جاننے والا): اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا اور جاننے والا ہے اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے وہ ظاہر و پوشیدہ چیزوں اور دلوں کے راز سے بھی واقف ہے وہ ہر اس امر کو جانتا ہے جو ماضی میں ہوا حال میں ہو رہا ہے اور مستقبل میں ہونے والا ہے وہ نگران و نگہبان ہے جو بندوں کے تمام اعمال سے واقف ہے اس سے نہ اطاعت گزاروں کی اطاعت مخفی ہے اور نہ گناہ گاروں کی معصیت نہ کمزوروں کی حاجت اس سے پوشیدہ ہے اور نہ پکارنے والوں کی پکار اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: «بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے» - [سورہ البقرہ: ۲۳۱]۔

وہ پاک اللہ دونوں جہان کا رب ہے اس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اس کائنات میں جو بھی حسن و جمال اور کمال نظر آتے ہیں وہ سب اللہ پاک کے کمال کے آثار میں سے ہیں۔









## دوسرا اصول تمہارا دین کیا ہے

میرا دین اسلام ہے۔

اسلام کی تعریف: توحید کو اپناتے ہوئے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر دینا، اس کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے اس کا تابع فرمان ہونا اور شرک سے بے زار ہونا۔

مسلمان وہ ہے جو دین اسلام میں داخل ہو، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اس کے وجود اور وحدانیت پر ایمان لائے، اس کے احکام و اوامر کی بجا آوری کرے اور اس کی منہیات سے اجتناب کرے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: «باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکو کار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو»۔ [النساء: ۱۲۵]۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: «اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں»۔ (فصلت: ۳۳)۔



## دین اسلام کے بعض محاسن اور خوبیاں:

■ اسلام عدل و انصاف کا دین ہے: وہ قریبی و اجنبی، دوست و دشمن اور مومن و کافر ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: «اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے»۔ [النحل: ۹۰]۔ اللہ عز و جل منصف اور عادل حاکم ہے، اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ روز قیامت کے بارے میں فرماتا ہے: «آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج (کسی قسم کا) ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے»۔ [غافر: ۱۷]۔

■ اسلام دین رحمت ہے: فرمان باری تعالیٰ ہے: «اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے»۔ [الانبیاء: ۱۰۷]۔ اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: (رحم کرنے والوں پر رحمن رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا)۔ (سنن ابی داؤد)۔

■ اسلام محبت، اجتماعیت اور الفت کا دین ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: (تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے)۔ (صحیح بخاری)۔

- اسلام آسانی پر مبنی دین ہے: اسلام کی تعلیمات میں جو آسانی اور بے مشقتی پائی جاتی ہے اسے ہر وہ شخص جانتا ہے جو اس کی تعلیمات سے واقف ہو، فرمان باری تعالیٰ ہے: «اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا» [البقرہ: ۱۸۵]۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: «اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا» [المائدہ: ۶]۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: «اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا» [البقرہ: ۲۸۶]۔
- اسلام علم و معرفت کا دین ہے: چنانچہ قرآن کی جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ یہ ہے: «پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا»۔ [العلق: ۱]۔ اسلام ہر مسلمان مرد و عورت کو سیکھنے اور خوب سے خوب علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: «اور آپ کہیے کہ اے میرے رب بڑھادے میرے علم کو»۔ [طہ: ۱۱۴]۔ طالب کے لیے سب سے بلند درجات ہیں، اللہ پاک و برتر کا فرمان ہے: «اللہ تم میں ایمان والوں کے اور ان کے جنہیں علم عطا ہوا ہے درجے بلند کرے گا» [المجادۃ: ۱۱]۔

## دین اسلام کی عالم گیریت:

اسلام ایک عالمی دین ہے، وہ روئے زمین کے کسی ایک گوشہ اور کسی ایک قوم کے لیے خاص نہیں اور نہ وہ صرف عربوں کا دین ہے، بلکہ وہ تمام لوگوں کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی محمد ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: «آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک اور بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی بخشا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس (نبی) کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو»۔  
[الأعراف: ۱۵۸]۔

اسی طرح یہ دین صرف زمانہ ماضی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر روز قیامت تک کے لیے دین برحق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: «اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہو گا»۔ [سورہ آل عمران: ۸۵]۔



## دین اسلام کی جامعیت:

■ اسلام طرز حیات ہے، 'مسلم فرد کے لیے' اسلامی معاشرہ کے لیے 'امت مسلمہ کے لیے' تمام گوشوں اور ہر میدان میں 'سیاست ہو یا معاشیات ہو یا سماجیات وغیرہ۔

■ اسلام عقیدہ اور شریعت سے عبارت ہے: چنانچہ یہ دین صحیح عقائد، عظیم عبادات، حکمت پر مبنی معاملات، 'حسن اخلاق اور منظم برتاؤ' پر مشتمل ہے۔

■ اسلام کی تعلیمات اور احکام انسان کے لیے یہ ضابطہ مقرر کرتے ہیں کہ اس کے رب کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ، یہاں تک کہ حیوانات و جمادات کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہئے۔

■ اسلام کی تعلیمات ان تمام امور پر مشتمل ہیں جن کا تعلق روح اور جسم کی صالحیت اور درستگی سے ہے۔

مختصر یہ کہ: اسلام کے اندر لوگوں کے لیے دنیا و آخرت کی تمام تر سعادت و خوش بختی، صالحیت و درستگی اور خیر و بھلائی موجود ہے۔



## اسلامی عقیدہ کے اصول و مبادی

### ایمان کے ارکان

چھ امور پر ایمان لانے اور سچے دل سے ان کی تصدیق کرنے میں اسلامی عقیدہ کے اصول و مبادی پنہاں ہیں ان امور کو (ایمان کے ارکان) سے موسوم کیا جاتا ہے جو کہ یہ ہیں:

۱- اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا: یعنی اللہ کے وجود پر ایمان لانا اور اس بات پر کہ وہ تنہا اس کائنات کا اور اس کے تمام تر مشتملات کا خالق و مالک اور مدبر ہے وہی تمام تر عبادتوں کا تنہا مستحق ہے اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں وہ جمال و کمال کی صفات سے متصف ہے وہ کامل ہے اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک و صاف ہے اور اس جیسی کوئی چیز نہیں۔

۲- فرشتوں پر ایمان لانا: فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں اپنی عبادت، اپنے حکم کی مکمل بجا آوری اور انہیں جن اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے، ان کی تنفیذ کے لیے پیدا فرمایا، ہم اجمالی طور پر ان تمام فرشتوں کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، اور ان فرشتوں کے، جن کے بارے میں ہمیں وحی نے خبر دی ہے، اسماء و صفات اور اعمال پر تفصیلی طور پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے جبریل جن کو اللہ نے انبیاء و رسل کی طرف وحی دے کر بھیجا، میکائیل جن کو بارش برسانے اور ہریالی پر مکلف کیا گیا ہے، اسرائیل جن کو صور میں پھونک مارنے پر مکلف کیا گیا ہے، ملک الموت جن کو لوگوں کی روح قبض کرنے پر مکلف کیا گیا ہے اور مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں۔

۳- کتابوں پر ایمان لانا: یعنی ان کتابوں پر جنہیں اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے ان کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا، تاکہ وہ دنیا و آخرت میں سعادت سے سرفراز ہوں، ہم ان کتابوں پر اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کتابوں کے نام ہمیں وحی کے ذریعہ معلوم ہوئے، ان پر تفصیلی طور پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو داود علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آسمانی صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔



۴- رسولوں پر ایمان لانا: وہ بھی انسان ہی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہدایت کی باتیں وحی فرمائی اور انہیں لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ وہ ان تک اللہ کا دین پہنچائیں، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تمام رسول دین داری اور اخلاق مندی کے درجہ کمال پر فائز تھے، ان کی بعثت کا سب سے اہم مقصد تھا لوگوں کو اس بات کی دعوت دینا کہ تمام تر عبادتیں صرف ایک اللہ پاک و برتر کے لیے انجام دیں، شرک اور اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کی عبادت کو ترک کر دیں، خیر کے کام کریں اور برائی سے باز رہیں۔

ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بہت سے رسول مبعوث فرمائے، بندوں پر ان کی خبروں کی تصدیق کرنا اور ان کے حکم کی پیروی اور اطاعت کرنا واجب قرار دیا، ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ رسول ایسے ہیں جن کے نام اور ان کی قوموں کے ساتھ ان کے واقعات کی خبر اللہ نے ہمیں دی ہے، جیسے: ادریس، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہود، صالح، اور شعیب، اور کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن کے نام اللہ نے ہمیں نہیں بتائے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: «یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے (قصے) تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے اور کسی رسول کا یہ (مقدور) نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے»۔ [غافر: ۷۸]۔



۵- آخرت کے دن پر ایمان لانا: اس سے مراد قیامت کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے دنیاوی اعمال کا حساب و کتاب لینے اور جزا و سزا دینے کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، لوگ دو فرقوں میں بٹ جائیں گے، مومن ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں سکونت پزیر ہوں گے، اور کافر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے، جو شخص مومن تو ہو گا لیکن گناہوں کا مرتکب بھی ہو گا، اسے یا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا، یا ایک متعینہ مدت تک عذاب سے دوچار کرنے کے بعد جنت میں داخل کر دے گا۔

۶- تقدیر پر اس کے خیر و شر کے ساتھ ایمان لانا: مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھی، اس کا ارادہ کیا اور اسے وجود بخشا، چنانچہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے علم، کتابت، مشیت اور تخلیق کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر وہ چیز خیر ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے، اور اگر خیر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش یا سزا ہے، جو اللہ کی حکمت اور عدل کی بنا پر واقع ہوتی ہے، جس کی عظمت و کمال کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا، جب انسان تقدیر پر اس کے خیر و شر کے ساتھ ایمان رکھتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان اور روح میں راحت و سکون رہتا ہے، وہ اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، کیوں کہ وہ جان رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔





## اسلام کے ارکان:

اسلام کے ارکان سے مراد اس کی وہ بنیادیں ہیں جن پر اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ ارکان پانچ ہیں جن پر عمل کرنا بندہ مسلم پر واجب ہے:

۱- یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں: یہ گواہی زبان سے دی جاتی ہے، دل سے اس کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی حق، تنہا معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے مبلغ و داعی ہیں۔


۲- نماز قائم کرنا: بندہ مسلم پر واجب ہے کہ دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز ادا کرے، ایسی نماز جو قیام، رکوع اور سجود سے عبارت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی بجا آوری ہوتی ہے، ان نمازوں کے متعینہ اوقات ہیں جو اپنے ناموں سے موسوم ہیں، جو کہ یہ ہیں: فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشا کی نماز، نیز کچھ نمازیں اور بھی ہیں جو واجب نہیں ہیں۔

۳- زکاۃ ادا کرنا: بایں طور کہ جس مسلمان کے پاس مال و دولت ہو وہ اپنے مال میں سے ایک معمولی متعین مقدار نکالے اور اسے مستحق فقیروں، مسکینوں اور زکاۃ کے دیگر مصارف میں تقسیم کرے۔



۴- رمضان کے روزے رکھنا: یوں طور کہ بندہ مسلم رمضان کے مہینہ میں اللہ کی عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع کرنے اور ان جیسے دیگر نوافل صیام سے باز رہے۔

۵- بیت اللہ الحرام کاج کرنا: اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان مکہ مکرمہ کا سفر کرے تاکہ عبادت الہی کی نیت سے حج کے شعائر ادا کرے، خواہ زندگی میں ایک ہی دفعہ کیوں نہ ہو، بشرطیکہ اس کے پاس استطاعت ہو۔





## اسلام میں عبادت:

عبادت کا مطلب ہے: اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ان تمام ظاہری و باطنی اقوال و اعمال کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں۔

■ اقوال کی مثال: قرآن کی تلاوت، دعا و مناجات، ذکر و اذکار، نفع بخش علم کی تعلیم اور دوسروں کو نصیحت کرنا وغیرہ۔

■ اعمال کی مثال: طہارت، نماز، حج اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرنا وغیرہ۔

■ ظاہری اعمال سے مراد: وہ اعمال ہیں جو عیاں ہوتے ہیں، دیکھے یا سنے جاسکتے ہیں، جیسے نماز، حج، قرآن کی تلاوت، دعوت الی اللہ اور صلہ رحمی۔

■ باطنی اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو دل میں ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت، اس (کے اجر و ثواب) کی امید، اس کا خوف، خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ پر توکل۔




## اسلام میں عبادت کی اہمیت:

اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی وہ مقصد ہے جس کی خاطر اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا  
فرمان باری تعالیٰ ہے: «میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ  
وہ صرف میری عبادت کریں»۔ [سورۃ الذاریات: ۵۶]۔

بڑی بڑی حکمتوں اور بہت سی ایسی مصلحتوں کے پیش نظر عبادت کو مشروع قرار  
دیا گیا ہے جو (عبادت کی وجہ سے) انسانوں کے نفوس اور ان کی زندگی میں برپا ہوتی  
ہیں، مثال کے طور پر عبادت کے فضائل میں سے ہے کہ وہ نفوس کو پاک و صاف  
کرتی اور انہیں انسانیت کے درجہ کمال تک پہنچا دیتی ہے۔

انسان کو عبادت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ جس طرح اس کے  
جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس کی روح کو بھی یہ ضرورت  
ہوتی کہ وہ عبادت کے ذریعہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کا نفس اللہ کے ذکر اور اس  
کی عبادت کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا، اور نہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس  
سے بہتر تعلق کے بغیر فرحت و سعادت اور شرح صدر محسوس کرتا ہے، جو لوگ  
حقیقت میں عبادت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ خوش بخت ہوتے ہیں، ان  
کے دل میں فرحت و انبساط سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، چنانچہ جو شخص سعادت  
و مسرت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ صرف اللہ کے لئے عبادت کی چوکھٹ  
کو لازم پکڑے۔



## اسلام میں عبادت کی جامعیت:

اسلام میں عبادت ان تمام نیک اعمال کو شامل ہے جو اللہ کو محبوب ہیں اور جن کے ذریعہ ہم اللہ عزیز و جل کی قربت حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ عبادت میں جو اعمال شامل ہیں وہ یہ ہیں:

■ عبادت کے شعائر: جیسے نماز، زکاۃ، روزے، حج، قرآن کی تلاوت، دعا اور ذکر الہی وغیرہ۔

■ اچھا برتاؤ: جیسے والدین کی فرمانبرداری، صلہ رحمی، بیوی اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک، خرید و فروخت میں اچھا برتاؤ، کرنا، سارے کام پر پختگی سے کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا اور جانور کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنا وغیرہ۔

■ اسی طرح عبادت میں اچھے اخلاق بھی شامل ہیں: جیسے سچ بولنا، امانت ادا کرنا، عہد و پیمانہ کو پورا کرنا، مسکرا کر ملنا، اچھی بات کہنا، حیا و شرم کرنا اور ان جیسے دیگر اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔

معلوم ہوا کہ مسلمان ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، مسجد میں گھر میں، کام کاج کے دوران، اور ہر جگہ وہ عبادت میں لگا رہتا ہے، غرضیکہ اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: «آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا رب ہے»۔ [الأنعام: ۱۶۲]۔











## تیسرا اصول تمہارا نبی کون ہے

میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں:

ہمارے نبی: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں، آپ کا نسب نامہ اللہ کے نبی اسماعیل بن ابراہیم سے ملتا ہے، ان پر اور ہمارے نبی پر افضل ترین صلاۃ و سلام نازل ہو۔

اللہ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں مکہ مکرمہ کے اندر مبعوث فرمایا، آپ پر قرآن نازل کیا، چنانچہ آپ نے لوگوں کو توحید اور دین اسلام کی دعوت دی، لیکن آپ کی قوم نے آپ کو سخت ترین اذیت سے دوچار کیا، آپ کے صحابہ کو سزائیں دیں اور ان میں سے بعض کو قتل کر دیا، تیرہ سال کے بعد آپ شہر یثرب کی طرف ہجرت کر گئے (بعد میں اس شہر کا نام مدینہ نبویہ پڑ گیا) اس شہر میں آپ نے اسلامی حکومت قائم کی اور اسلامی معاشرہ کی داغ بیل ڈالی، یہاں آپ دس سال تک دعوت و ارشاد اور تعلیم کا کام کرتے رہے، آپ نے اس مشن کو جاری رکھا، یہاں تک کہ شریعت مکمل ہو گئی، اسلام اور دین درجہ کمال کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا: «آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔» [المائدہ: ۳]۔



جب آپ کی آنکھوں کو یہ منظر دیکھ کر رہنما گھبرا گیا کہ لوگ جوق در جوق اپنی مرضی اور پسند سے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی جیسا کہ اللہ جل و علا کا فرمان ہے: «جب اللہ کی مدد اور فتح آپ پہنچے (۱) اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے دیکھ لیں (۲) تو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے بیشک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے» (سورۃ النصر: ۱-۳)۔

نبی رحمت:

ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں آپ کی پوری سیرت میں رحمت و مہربانی کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئی آپ زندگی کے تمام مراحل اور ہر حالت میں رحمت و مہربانی کا مظاہرہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: «اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔» [سورۃ الانبیاء: ۱۰۷]۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک مظہر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لانے اور کفر و جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر انہیں ایمان و علم اور ہدایت کی روشنی کی طرف لانے کے سخت حریص اور خواہش مند تھے چنانچہ جب آپ کی قوم ایمان نہ لائی تو قریب تھا کہ حزن و ملال اور حسرت و افسوس کے مارے آپ جان ہلاک کر لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: «اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟» [الکھف: ۶]۔



آپ کی رحمت کے معانی اس سے بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ آپ مومنوں کی منفعت کے بڑے خواہش مند اور ان کے ساتھ بڑے شفیق و مہربان تھے 'فرمان باری تعالیٰ ہے: «تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔» [سورة التوبة: ۱۲۸]۔ دین میں آسانی کرنے اور اپنی امت کو مشقت آمیز اور ناممکن امور کا مکلف نہ بنانے کی حرص بھی آپ کے اندر بہت موجود تھی 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: «(دین میں) آسانی کرو، سختی نہ کرو اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں (ڈرا ڈرا کر) متفرق نہ کرو» بخاری و مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحمت و شفقت سے معمور تھا 'آپ عورتوں اور بچوں کے تئیں سب سے زیادہ رحم دل اور مہربان تھے 'آپ کے ایک صحابی جو کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہم ہیں 'وہ عرض کرتے ہیں: «میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنے اہل خانہ پر شفیق نہیں دیکھا» صحیح مسلم۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی انسانوں تک ہی نہیں محدود نہیں تھی 'بلکہ حیوانوں پر بھی آپ مہربان تھے 'چنانچہ آپ نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی دعوت دی اور انہیں تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا اور اپنے صحابہ سے بیان کیا کہ ایک بدکار عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے اپنی مغفرت سے نواز کر جنت میں داخل کر دیا اور ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا اور اسے کھانا پینا نہیں دیا یہاں تک کہ بلی مر گئی۔

آپ کی رسالت وپیغامبری تمام لوگوں کے لیے عام ہے:

سابقہ انبیاء ورسل علیہ الصلوٰۃ والسلام خاص اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وپیغامبری ہر زمان و مکان میں پائے جانے والے تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: « ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ » [سبأ: ۲۸].

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: « آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔ » [الأعراف: ۱۵۸].

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: « پہلے نبی خاص اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوا کرتا تھا، مگر میں تمام لوگوں کی طرف (رسول بنا کر) بھیجا گیا ہوں۔ » (صحیح بخاری).

چنانچہ آپ کی بعثت سے لے کر دور حاضر تک پیدا ہونے والے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں پر واجب ہے کہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کریں اور آپ کے دین میں داخل ہوں، کیوں کہ اللہ نے آپ کے ذریعہ آسمانی رسالت وپیغامبری کا سلسلہ ختم کر دیا اور آپ کی اطاعت کو واجب قرار دیا، چنانچہ جو شخص آپ کی اطاعت کرے گا وہ دنیا میں سعادت سے بہرہ ور ہوگا اور آخرت میں جنت کا ملیں قرار پائے گا اور جو شخص آپ کی نافرمانی کرے گا وہ دنیا میں شقاوت سے دوچار ہوگا اور آخرت میں جہنم میں داخل ہوگا، فرمان باری تعالیٰ ہے: « جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ نیکیے گا نہ تکلیف میں پڑے گا [۱۲۳] جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ » [طہ: ۱۲۳، ۱۲۴].









اپنے گھر میں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ:

انسان کا گھر ہی وہ جگہ ہے جہاں اس کا حسن اخلاق، کمال ادب اور اچھی معاشرت کا اثر ظاہر ہوتا ہے، جب انسان اپنی بیوی یا بچوں یا خدام کے ساتھ ہوتا ہے تو بغیر کسی تکلف کے اپنی فطرت کے مطابق تصرف اور برتاؤ کرتا ہے۔

جو شخص امت مسلمہ کے رسول و قائد اور معلم انسانیت - صلی اللہ علیہ وسلم - کے اس حال پر غور کرے گا جس حال میں آپ اپنے گھر میں ہوا کرتے تھے، تو وہ پائے گا کہ شریف الطبع انسان کو اپنے گھر میں، اپنے اہل خانہ اور آل و اولاد کے ساتھ جس طرح رہنا چاہئے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین مثال پیش کی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا: (آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت آجاتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے)۔ (صحیح مسلم)۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اپنے اہل خانہ اور اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے انسان تھے، 'حسن معاشرت' نرم رویہ اور اپنی بیویوں کی خواہشات اور جذبات کو جاننے کے باب میں آپ نے عظیم مثالیں پیش کیں، انہیں خوش کرنے کا کوئی بھی موقع آپ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: « ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑا دیکھا جب کہ حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے آڑ فراہم کر رہے تھے دریاں حال کہ میں ان کا کھیل دیکھ رہی تھی » (صحیح بخاری و صحیح مسلم)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے اور ان کا احترام کیا کرتے تھے، جب آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے، ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے، آپ اپنی بیٹیوں کی زیارت کرتے اور ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔

آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی کہ: (عورتوں کے تعلق سے بھلائی کی وصیت قبول کرو) (صحیح بخاری و صحیح مسلم)۔



## ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اخلاق کریمہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق اور عمدہ آداب سے متصف تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: «اور بے شک تو بہت بڑے (عمدہ) اخلاق پر ہے»۔ [القلم: ۴]۔ آپ اخلاق کے اس درجہ کمال پر فائز تھے جہاں تک آپ کے علاوہ کسی کی رسائی نہیں ہو سکی، یوں طور کہ آپ ہر قسم کے نقص سے پاک تھے، ہر خوبی میں کمال حاصل تھا، قرآن مجید ہی آپ کا اخلاق تھا، آپ قرآن سے ادب حاصل کرتے اور اسی کے ذریعہ لوگوں کو ادب سکھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں درج ذیل صفت بھی شامل ہیں:

■ آپ تمام لوگوں سے زیادہ حلیم و بردبار، عادل و منصف، پاک دامن اور سخی و فیاض تھے۔

■ آپ سب سے زیادہ باحیا تھے۔

■ آپ کے اندر تواضع اور انکساری تھی، ہر کسی کی دعوت کو قبول کرتے، کم سے کم تر درجہ کا تحفہ بھی قبول کر لیتے اور اس کا بہتر بدلہ عنایت کرتے۔

■ بیماروں کی تیمار داری کرتے، جنازہ میں شامل ہوتے، فقیروں کے ساتھ بیٹھتے، مسکینوں کے ساتھ کھانا کھاتے، اصحاب فضیلت کا اکرام اور اخلاق مندوں کا احترام کرتے اور عزت و شرف والوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے۔

■ آپ کے پاس جو بھی آتا آپ اس کی ضرورت پوری کرتے، آپ نہ بد زبان تھے اور نہ سخت دل اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لیتے، الایہ کہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو آپ اللہ کی خاطر غصہ کرتے، اپنی ذات کی خاطر نہیں۔

■ آپ کا اخلاق تھا کہ ملنے والے سے سلام کرنے میں پہل کرتے، اور جب اپنے کسی صحابی سے ملتے تو بڑھ کر مصافحہ کرتے۔



■ جو شخص آپ کی مجلس میں بیٹھتا آپ اس سے روبرو ہو کر اس کی بات سنتے اس سے بات کرتے اور اپنے عمدہ محاسن اور رہنمائی سے نوازتے۔

■ آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر رحم دل اور ان میں سب سے بہتر تھے سارے لوگوں سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش تھے۔

■ مزاح فرماتے لیکن حق کے سوا کچھ نہ بولتے آپ بہت مسکرایا کرتے تھے بغیر قہقہہ کے ہنستے اپنی بیویوں کے ساتھ ریس لگاتے اور ان سے دل لگی کیا کرتے تھے

■ جو پیش کیا جاتا کھا لیتے پیش کردہ کھانے کو واپس نہیں کرتے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے اگر کھجور مل جاتی تو وہی کھا لیتے گوشت ملتا تو بھی تناول کر لیتے اگر گھیوں یا جو کی روٹی ملتی تو وہ بھی کھا لیتے اگر حلوی یا شہد ملتا تو وہ بھی تناول فرماتے اگر بغیر روٹی کے صرف دودھ ملتا تو اسی پر اکتفا کرتے اگر تربوز ملتا یا رطب کھجور ملتی تو اسے بھی تناول کر لیتے۔

■ جو ملتا پہن لیتے کبھی چادر اوڑھ لیتے کبھی اون کا جبہ زیب تن کرتے غرضیکہ جو مباح لباس ملتا اسے زیب تن کر لیتے۔

■ جو سواری میسر ہوتی اسی پر سوار ہو جاتے کبھی گھڑ سواری کر لیتے کبھی اونٹ تو کبھی خچر اور کبھی گدھے کو سواری بنا لیتے یا پیدل ہی چل پڑتے۔

■ ہمہ وقت اللہ کی رضا کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے یا ایسے کام میں لگے ہوتے جس کا تعلق اپنے نفس کی اصلاح یا اہل خانہ کی اصلاح سے ہوتا۔

مذکورہ بالا اخلاق کے علاوہ بھی آپ کے عمدہ اخلاق اور بہترین سیرت کے بہت سے پہلو ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام نازل فرمائے۔





# خاتمہ

اسلام ایک عظیم دین ہے، جو مسلمان شخص - بشرطیکہ اس کی تعلیمات کا پابند ہو - کے لیے دنیاوی زندگی میں راحت و سکون، پاکیزہ زندگی اور عمدہ حالت کو بروئے کار لاتا ہے اور آخرت کی زندگی میں اسے دائمی نعمت اور ابدی سعادت سے بہرہ ور کرتا ہے، اسی طرح جو مسلم معاشرہ اس کی تعلیمات پر کاربند ہوتا ہے، اسے عروج و ترقی، آپسی اخوت و ہمدردی اور امن و امان سے ہمکنار کرتا ہے۔

اسلام کی ہدایت پانے والے انسان! آپ کو یہ عظیم نعمت مبارک ہو، آپ اسلام کا عقیدہ، اس کی شریعت، اس کی تعلیمات و احکام، اور اخلاق و آداب کو سیکھیں، اس دین کو دل و جان سے تمام لیں، حسب استطاعت اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اس پر کاربند رہیں، آپ اپنے اوپر اسلام کا اثر نمایاں ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ (اسلام اپنے ماننے والے کو) کس طرح ایک نیک انسان میں بدل دیتا ہے، جو خود بھی خوش بخت اور شاداں و فرحاں ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس کی وجہ سے خوش و خرم رہتے ہیں، جیسے اس کے والدین، بیوی، بچے، رشتہ دار، پڑوسی اور دوست و احباب اور ہر وہ شخص جو اس مسلمان شخص کے ساتھ تعامل اور برتاؤ کرتا ہے جسے اللہ نے دین اسلام کو قبول کرنے کا اور اپنی رضا تک پہنچانے والے راستے پر چلنے کا اعزاز بخشا۔

یہ کتابچہ دینی احکام کو سیکھنے کا ابتدائی مرحلہ ہے، اسے پڑھنے کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ علم نافع حاصل کرنے، نیک اعمال انجام دینے، اپنے نفس کا تزئین اور دل کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اسلام کے تعلق سے آپ کا علم جس قدر زیادہ ہوگا اور جس قدر آپ اپنے علم پر عمل پیرا ہوں گے اسی قدر اپنے عزیز و برتر رب سے آپ کی قربت بھی بڑھے گی، آپ قرآن کریم پر توجہ مرکوز رکھیں، اسے سیکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا مطالعہ کریں، وہی آپ کے اسوہ و نمونہ ہیں جن کے نقش قدم پر آپ کو پوری زندگی چلنا ہے، وہی وہ تنہا انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جو کچھ بھی وہ پیش کریں آپ اسے قبول کر لیں، اور آپ کے علاوہ جو انسان بھی ہے، خواہ وہ جس قدر بھی مقام و مرتبہ پر فائز ہو، اس کی وہی بات قبول کی جائے گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی اور جو بات ان کے مخالف ہوگی اسے رد کر دی جائے گی، دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا کرنے سے باز رہیں اور اپنے اسلامی بھائیوں سے نزاع اور اختلاف کرنے سے گریز کریں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے توفیق اور دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اس سے اس حال میں ملیں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ اور تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لئے ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے تمام ساتھیوں پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں تمام لوگوں پر۔



  
**Chat in your  
language**  
اسلام کے بارے میں مختلف زبانوں  
میں مکالمہ



اس کتاب اور دیگر کتابوں کو متعدد زبانوں  
میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے



اسلام کے بارے میں مزید  
معلومات کے لیے

جس نے اسلام کو گلے لگایا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا، وہ دراصل نور اور ہدایت کے راستے پر اور اس واضح و سیدھی راہ پر چلنے لگا، جو اسے انسان کے خالق اور اسے زندگی بخشنے والے اللہ تک لے جاتی ہے۔

دین اسلام کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں اچھی حالت میں 'اطمینان اور سعادت کے ساتھ رہے' اسی طرح موت کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی سعادت و کامرانی سے بہرہ ور ہو' بایں طور کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے اور وہ جنت کی دائمی نعمت سے لطف اندوز ہو۔

ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ دین حق کی تلاش کرے جو کہ اسلام ہے ' اس سے واقفیت حاصل کرے ' اس پر ایمان لاتے ہوئے اسے گلے لگائے ' اور اس کی تعلیمات اور احکام کی پاسداری کرے ' تاکہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے دامن مراد کو بھر سکے۔



osoulcenter



www.osoulcenter.com

اس کتاب اور دیگر کتابوں کو متعدد زبانوں میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے



OSOUL  
STORE

osoulstore.com

